



سوال

(773) ان عورتوں کا حکم جو تصویروں والے رسالے دیکھتی پڑھتی ہیں

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ان عورتوں کا کیا حکم ہے جو وہ رسالے پڑھتی ہیں جن میں تصویریں اور شرعی طور پر حرام مقالے ہوتے ہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ہر مکلف چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کے لیے بدعت اور گمراہی کی کتابیں اور وہ رسالے پڑھنا حرام ہے جو فضول باتیں شائع کرتے ہیں اور جھوٹے پروپیگنڈے کرتے اور اخلاق فاضلہ سے انحراف کی دعوت دیتے ہیں مگر جبکہ ان کا مطالعہ کرنے والا ان میں پائے جانے والے الحاد اور انحراف کا رد سکتا ہو ان کے مالکوں کو نصیحت کر سکتا ہو۔ ان کے کام ان پر انکار کر سکتا ہو اور لوگوں کو ان کی شرارت سے محتاط کر سکتا ہو (سعودی فتویٰ کمیٹی)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

عورتوں کے لیے صرف

صفحہ نمبر 691

محدث فتویٰ